


Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 4th Week, 1st Day	Review Exercise 4 Q # (8, 9, 10)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. ABCD is a quadrilateral and BD bisects the angle ABC Find. (2.5x2=5)

ABCD ایک چوکور ہے اور BD زاویہ ABC کی تہیف کرتا ہے، معلوم کریں۔


- (i) x (ii)  $m\angle ADB$



Q.2. ABCDEF is a regular hexagon and ABGH is a square. Find (2.5x2=5)

ABCDEF ایک منظم مسمن ہے اور ABGH ایک مربع ہے۔ معلوم کریں۔

- (i)  $m\angle ABC$  (ii)  $m\angle AOB$




Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 4th Week, 1st Day	Review Exercise 4 Q # (8, 9, 10)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. ABCD is a quadrilateral and BD bisects the angle ABC Find. (2.5x2=5)

ABCD ایک چوکور ہے اور BD زاویہ ABC کی تہیف کرتا ہے، معلوم کریں۔

- (i) x (ii)  $m\angle ADB$



Q.2. ABCDEF is a regular hexagon and ABGH is a square. Find (2.5x2=5)

ABCDEF ایک منظم مسمن ہے اور ABGH ایک مربع ہے۔ معلوم کریں۔

- (i)  $m\angle ABC$  (ii)  $m\angle AOB$

